



Noble Quran القرآن الحكيم

Urdu Translation (Shah Abdul Qadir)

(حضرت شاہ عبد القادر) اردو ترجمہ بمعہ عربی

سورة مؤمن
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حم

حَمِيمٍ۔

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيِّ

أُتارا (نازل کیا ہوا) کتاب کا اللہ سے ہے، جو زبردست ہے خبردار۔

غَافِرُ الذَّنْبِ وَقَابِلُ التَّوْبِ

گناہ بخشنے والا، اور توبہ قبول کرتا،

شَدِيدُ الْعِقَابِ ذِي الْطُولِ

سخت مار دیتا (دینے والا)، مقدور کا صاحب۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمُصِيرُ

کسی کی بندگی نہیں سوا اس کے۔ اسی کی طرف پھر جانا (سب کو پلٹنا) ہے۔

.1

.2

.3

.4

مَا يُجَدِّلُ فِيْ إِيمَانِ اللَّهِ إِلَّا الظَّالِمُونَ كَفَرُوا

وہی جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں جو منکر ہیں،

فَلَا يَغْرِبُكَ تَقْلِيْمُهُمْ فِي الْبَلْدِ

سو ٹونہ بہک اس پر کہ چلتے پھرتے ہیں شہروں میں۔

.5

كَذَّبُتُ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نُوحٌ وَالْأَحَزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ^ص

جھٹلا پچے ہیں ان سے پہلے قوم نوح کی اور کتنے فرقے ان سے پچھے۔

وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِ لِيَأْخُذُوهُ^ص

اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول پر کہ اسکو پکڑ (گرفتار کر) لیں،

وَجَدَلُوا بِالْبَطِيلِ لِيَدْعُ حِصْوَابِهِ الْحَقَّ فَأَخَذُوهُمْ^ص

اور لانے لگے جھوٹ، جھگڑے کہ اس سے ڈگائیں (نیچا کریں) سچادیں، پھر میں نے ان کو پکڑا،

فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٌ

تو کیسی ہوئی میری سزادی؟

.6

وَكَذَّلِكَ حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَى الظَّالِمِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْنَّارِ

اور ویسے ہی ٹھیک (چ) ہو چکی بات تیرے رب کی منکروں پر، کہ یہ ہیں دوزخ والے۔

.7

الظَّالِمِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّمُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

جو لوگ اٹھا رہے ہیں عرش اور جو اسکے (ارد) گرد ہیں، پاکی بولتے (تسیح کرتے) ہیں اپنے رب کی خوبیاں،

وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَعْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا

اور اس پر یقین رکھتے ہیں، اور گناہ بخشواتے ایمان والوں کے۔

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ حَمَةً وَعِلْمًا

اے رب ہمارے ہر چیز سماں ہے تیری مہر (رحمت) میں اور خبر (علم) میں،

فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَأْبُوا أَتَبْغُو أُسَيْلَكَ وَقَهْمَ عَذَابَ الْجَحِيمِ

سو معاف کران کو جو توبہ کریں، اور چلیں تیری راہ، اور بچا ان کو آگ کی مارے۔

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدْنَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَاءِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرَّى يَتِيهِمْ

اے رب ہمارے! اور داخل کران کو بنے کے (رہنے والے) باغوں میں، جن کا وعدہ دیا تو نے ان کو،

اور جو کوئی نیک ہوان کے بالپوس میں اور عورتوں میں اور اولاد میں سے (ان کو بھی)۔

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

بیشک توہی ہے زبردست حکمت والا۔

وَقَهْمُ الْسَّيَّاتِ

اور بچا ان کو برائیوں سے۔

وَمَنْ تَنَقَّلَ السَّيَّاتِ يَوْمَ إِنْ فَقَدَ رَحْمَتَهُ

اور جس کو توبچائے برائیوں سے اس دن، اس پر مہر (رحمت) کی تو نے۔

وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

اور یہ جو ہے بھی ہے بڑی مراد پانی (کامیابی)۔

.8

.9

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَيْتَاهُوَنَ

جو لوگ منکر ہیں، ان کو پکار کر کہیں گے،

لَمْ يَقُلُ اللَّهُ أَكُبُرُ مِنْ مَقْتِلِكُمْ إِذْ تُدْعُونَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكُفُّرُونَ

اللہ بیزار ہوتا تھا زیادہ اس سے، کہ تم بیزار ہوئے ہو اپنے جی (آپ) سے،

جس وقت تم کو بلا تھے یقین (ایمان) لانے کو، پھر تم منکر ہوتے تھے۔

قَالُوا رَبَّنَا أَمَّتَنَا أَنْتَنَا وَأَحْيَنَا أَنْتَنَا

بولے، اے رب ہمارے! تو موت دے چکا، ہم کو دوبار اور زندگی دے چکا دوبار،

فَأَعْتَرْفُنَا بِذِنْبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلٍ

اب ہم قائل ہوئے اپنے گناہوں کے، پھر اب بھی (کیا) ہے (اس عذاب سے) نکلنے کو کوئی راہ؟

صَلَوةً ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دَعَى اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرُتُمْ

یہ تم پر اس واسطے کہ جب کسی نے پکارا اللہ کو اکیلا، تو تم منکر ہوئے،

وَإِنْ يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُوا

اور جب اسکے ساتھ شریک پکارے تو تم یقین لانے لگے۔

فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ

اب حکم (فیصلہ) وہی جو کرے اللہ، سب سے اوپر بڑا۔

هُوَ اللَّذِي يُرِيكُمْ إِلَيْتُهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا

وہی ہے، تم کو دکھاتا ہے اپنی نشانیاں اور اتارتا تمہارے واسطے آسمان سے روزی۔

وَمَا يَتَدَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ

اور سوچ وہی کرے (صیحت وہی پکڑے) جو رجوع رہتا ہو۔

فَادْعُوا اللَّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ الْأَلِيَّنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَفِرُونَ

سو پکارو اللہ کو، نزی کر کر (خاص) اسکے واسطے بندگی، اور پڑے بُر امانيں منکر۔

رَفِيعُ الْدَّرَجَاتِ دُوْلُ الْعَرْشِ

صاحب اونچے درجوں کا، مالک تخت کا۔

يُلْقِي الرُّوحُ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اُتارتا ہے بھید کی بات اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں کہ وہ ڈرانے ملاقات کے دن (سے)۔

يَوْمَ هُمْ بَرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ

جس دن وہ لوگ نکل کھڑے ہوں گے۔ چھپی نہ رہے گی اللہ پر ان کی کوئی چیز۔

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ

کس کا راج ہے اُس دن؟

لِلَّهِ أَلْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

اللہ کا ہے، جو اکیلا ہے دباؤ والا۔

الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ^ج

آج بد لہ پائے گا ہر جی (تنفس)، جیسا کمایا۔

لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ^ج

ظلم نہیں آج بیٹک۔

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

(بلاشبہ) اللہ شتاب (جلد) لینے والا ہے حساب۔

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ إِذَا الْقُلُوبُ لَدَى الْحَاجِرِ كَظِلَمِينَ^ج

اور خبر سنادے انکو اس نزدیک آنے والے دن کی جس وقت دل پہنچیں گے گلوں کو دبارے ہوں گے۔

مَالِلَظَّلِيمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ

کوئی نہیں گنہ گاروں کا دوست، اور نہ کوئی سفارشی جسکی بات مانی جائے۔

يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تَخْفِي الصُّدُورُ^ج

وہ جانتا ہے چوری کی نگاہ، اور جو چھپا ہے سینوں میں۔

وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْصُونَ بِشَيْءٍ^ج

اور اللہ چکاتا (فیصلہ کرتا) ہے انصاف۔ اور جن کو پکارتے ہیں اسکے سوا، نہیں چکاتے (فیصلہ کرتے) ہیں کچھ۔

إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

بیٹک اللہ جو ہے وہی ہے سننا دیکھتا۔

21

أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ

کیا پھرے نہیں ملک میں کہ دیکھتے آخر کیسا ہوا انکا جو تھے ان سے پہلے،

كَانُوا أَهُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَإِثْرًا فِي الْأَرْضِ

وہ تھے ان سے سخت زور میں، اور جو نشانیاں چھوڑ گئے زمین میں میں،

فَأَخْذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانُوا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍِ

پھر ان کو پکڑا اللہ نے ان کے گناہوں پر، اور نہ ہوا ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا۔

22

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا تَآتَيْهِمْ مُرْسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخْذَهُمُ اللَّهُ

یہ اس پر، کہ ان پاس آتے تھے انکے رسول کھلے نشان لے کر، پھر منکر ہوئے، پھر ان کو پکڑا اللہ نے۔

إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدٌ أَعْقَابٌ

بیشک وہ زور آور ہے، سخت مار دینے والا۔

23

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى إِبْرَاهِيمَ تِبْيَانًا وَسُلْطَانًا مُّبِينًا

اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر، اور کھلی سند۔

24

إِلَيْ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ

فرعون اور ہامان اور قارون (کے) پاس،

فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ

پھر کہنے لگے، یہ جادو گر ہے جھوٹا۔

.25

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا

پھر جب پہنچاں پاس لے کر سچی (حق) بات، ہمارے پاس سے،

قَالُوا أَقْتُلُو أَبْنَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَأَسْتَحْيِو أَنْسَاءَهُمْ

bole، مارو (قتل کرو) میٹے انکے جو یقین لائے ہیں اسکے ساتھ، اور جیتی رکھوانکی عورتیں۔

وَمَا كَيْدُ الْكَفِيرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

اور جو داؤ ہے مکروں کا سو غلطی میں (بیکار ہے)۔

وَقَالَ فِرْعَوْنٌ ذَرْهُو نِيْ أَقْتُلُ مُوسَى وَلَيَدْعُ عَزِيزَهُ

اور بولا فرعون، مجھ کو چھوڑو کہ مارڈالوں موسیٰ کو، اور پڑاپکارے اپنے رب کو۔

إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ

میں ڈرتا ہوں کہ بگاڑے تمہاری راہ، یا نکالے ملک میں خرابی۔

وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرِ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ

اور کہا موسیٰ نے، میں پناہ لے چکا ہوں اپنے اور تمہارے رب کی،

ہر غرور والے سے جو یقین نہ کرے حساب کا دن۔

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ أَهْلِ فِرْعَوْنَ يَكْثُمُ إِيمَانَهُ

اور بولا ایک مرد ایمان دار فرعون کے لوگوں میں، جو چھپا تا تھا اپنا ایمان،

.26

.27

.28

^{صل}
أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ

کیا مارے ڈالتے ہو ایک مرد کو اس پر کہتا ہے میر ارب اللہ ہے،
اور لایا ہے تم پاس کھلی نشانیاں تمہارے رب کی۔

^{صل}
وَإِن يَكُونُ كَذِيفًا فَعَلَيْهِ كَذِيفٌ

اور اگر وہ جھوٹا ہو گا تو اس پر پڑے گا اس کا جھوٹ۔

^{صل}
وَإِن يَكُونُ صَادِقًا يُصِيبُكُم بَعْضُ الَّذِي يَعْدُكُمْ

اور اگر وہ سچا ہو گا تو تم پر پڑے گا کوئی وعدہ، جو دیتا ہے،

إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْدِي مَنْ هُوَ مُسَرِّفٌ كَذَابٌ

بیشک اللہ راہ نہیں دیتا اس کو جو ہو بے لحاظ جھوٹا۔

يَقُومُ لِكُمْ الْمُلْكُ الْيُوْمَ ظَلَهْرِينَ فِي الْأَرْضِ

.29

اے قوم میری! تمہارا راج ہے آج، چڑھ رہے (غالب) ہو ملک میں،

فَمَنْ يَنْصُرُ نَاصِيْمَنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا

پھر کون مدد کرے گا ہماری اللہ کی آفت سے اگر آگئی ہم پر؟

قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيْكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيْكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الْرَّشَادِ

بولا فرعون، میں وہی سوچھاتا ہوں تم کو جو سوچھا مجھ کو، اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے۔

30

وَقَالَ الَّذِي إِمَانَ يَقُولُ مِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ

اور کہا اس ایماندار نے، اے قوم میری! میں ڈرتا ہوں، کہ آئے تم پر دن ان فرقوں کا سا (قوموں جیسا)۔

31

مِثْلَ دَأْبِ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ

جیسے رسم پڑی قوم نوح کی، اور عاد اور ثمود کی، اور جو انکے پیچھے ہوئے۔

وَمَا أَنَّ اللَّهَ يُرِيدُظْلَمًا لِلْعِبَادِ

اور اللہ بے انصافی نہیں چاہتا بندوں پر۔

32

وَيَقُولُ مِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْتَّنَاجِ

اور اے قوم میری! میں ڈرتا ہوں کہ تم پر آئے دن ہاں ک پکار (قیامت) کا۔

33

يَوْمَ تُولَّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ أَنَّ اللَّهَ مِنْ عَاصِمٍ

جس دن بھاگو گے پیٹھ دے کر، کوئی نہیں تم کو اللہ سے بچانے والا۔

وَمَنْ يُصْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ

اور جس کو غلطی میں ڈالے اللہ، تو کوئی نہیں اسکو سو جھانے (راستہ دکھانے) والا۔

34

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلٍ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ إِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ

اور تم پاس آپ کا ہے یوسف اس سے پہلے کھلی باتیں لے کر، پھر تم رہے دھوکے ہی میں ان چیزوں سے جو وہ لا یا۔

حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ مَرْسُولاً

یہاں تک کہ جب مر گیا، کہنے لگے، ہر گز نہ بھیجے گا اللہ اسکے بعد کوئی رسول۔

كَذَلِكَ يُضْلِلُ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ

اسی طرح بہکاتا ہے اللہ اس کو، جو ہو زیادتی والا شک کرتا۔

الَّذِينَ يُجَدِّلُونَ فِي عَرَائِتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنٍ أَتَهُمْ

وہ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں بغیر کچھ سند کے، جو پہنچی ہو ان کو۔

كَبُرْ مَقْتَأً عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا

بڑی بیزاری ہے اللہ کے ہاں، اور ایمانداروں کے ہاں۔

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَابِ

اسی طرح مہر کرتا ہے اللہ ہر دل پر غرور والے سرکش کے۔

وَقَالَ فِرْعَوْنٌ يَهَامِنُ أَبْنَ لِي صَرْحًا عَلَى أَبْلُغَ الْأَسْبَبِ

اور بولا فرعون، کہ اے ہاماں! بنایمیرے واسطے ایک محل، شاید میں پہنچوں رستوں میں۔

أَسْبَبُ الْسَّمَوَاتِ

(یعنی) رستوں میں آسمان کے،

فَأَطَّلَعَ إِلَى إِلَهٖ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظْنَهُ كَذِبًا

پھر جہانک دیکھوں موسیٰ کے معبد کو، اور میری اٹکل (سبھج) میں تو وہ جھوٹا ہے۔

وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ

اور اسی طرح بھلے دکھائے تھے فرعون کو اسکے بُرے کام، اور روکا گیاراہ سے،

.35

.36

.37

وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ

اور جودا تو فرعون کا، سوکھنے (ہلاک ہونے) کے واسطے۔

وَقَالَ اللَّهُ أَنِّي أَمَنَّ يَقُومًا أَتَبِعُونَ أَهْدِي كُمْ سَبِيلَ الرَّشادِ

اور کہا اس ایماندار نے، اے قوم! میری راہ چلو، پہنچا دوں گاتم کو نیکی کی راہ پر۔

يَقُومٌ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الْدُّنْيَا مَتَّعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ الدِّرْجَاتُ الْأُفَوَافُ

اے قوم! یہ جو زندگی ہے دنیا کی، سوبرت لینا (عارضی) ہے۔ اور وہ گھر جو پھلا (آخرت کا) ہے،
وہی ہے ٹھہر اور (ہمیشہ رہنے) کا گھر۔

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجَزِّي إِلَّا مِثْلَهَا

جس نے کی ہے براہی تو وہی بدلمہ پائے گا اسکے برابر۔

وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ

اور جس نے کی ہے بھلائی، مرد ہو یا عورت اور وہ یقین (ایمان) رکھتا ہو، سو وہ لوگ جائیں گے بہشت میں،

يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

روزی پائیں گے دہاں بے شمار۔

وَيَقُومُ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَوَةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ

اے قوم! مجھ کو کیا ہوا (ماجرہ) ہے؟

بلاتا ہوں تم کو بچاؤ کی طرف اور تم بلا تے ہو مجھ کو آگ کی طرف۔

.38

.39

.40

.41

تَدْعُونَنِي لَا كُفَّرٌ بِاللَّهِ وَأَشْرِكُ بِهِ مَا لَيْسَ لِبِهِ عِلْمٌ

تم بلا تے ہو مجھ کو، کہ منکر ہوں اللہ سے، اور شریک ٹھہراؤں اس کا جس کی مجھ کو خبر نہیں۔

وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ

اور میں بلا تا ہوں تم کو اس زبردست گناہ بخشندہ والے کی طرف۔

لَا جَرْمَ أَئَمَّا تُدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دُعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ

آپ ہی ہوا (حق یہ ہے) کہ جس (معبور) کی طرف مجھ کو بلا تے ہو، اسکا بلا واؤ کہیں نہیں دنیا میں اور نہ آخرت میں،

وَأَنَّ مَرَدَنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ

اور یہ کہ ہم کو پھر جانا (پلٹنا) ہے اللہ کے پاس، اور یہ کہ زیادتی والے وہی ہیں دوزخ کے لوگ۔

فَسَتَدْلُ كُرُونَ مَا أَقْوَلُ لَكُمْ

سو آگے یاد کرو گے جو میں کہتا ہوں تم کو۔

وَأَفْوِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

اور میں سونپتا ہوں اپنا کام اللہ کو۔

إِنَّ اللَّهَ بِصِيرُ بِالْعِبَادِ

بیشک اللہ کی نگاہ میں ہیں سب بندے۔

فَوَقَلْهُ اللَّهُ سَيِّاتِ مَا مَكَرُوا

پھر بچالیا موسیٰ کو اللہ نے بُرے داؤں سے جو کرتے تھے،

وَحَاقَ بِإِلَيْهِ فِرْعَوْنُ سُوءُ الْعَذَابِ

اور اُنٹ پڑا فرعون والوں پر بُری طرح کا عذاب۔

ص

النَّارُ يُعَرِّضُونَ عَلَيْهَا أَعْدُوًا وَعَشِيشًا

آگ ہے، کہ دکھادیتے ہیں ان کو صبح اور شام۔

وَيَوْمَ تَقُومُ الْمَسَاعَةُ أَذْخُلُوا إِلَيْهَا فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

اور جس دن اٹھے گی قیامت (حکم ہو گا) داخل کرو فرعون والوں کو سخت سخت عذاب میں۔

وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الْفُسَقُوْنُ لِلَّذِينَ أُسْتَكْنُوا بَرْوَأً

اور جب آپس میں جھگڑیں گے آگ میں پھر کہیں گے کمزور غرور کرنے والوں کو،

إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَّافَهُلُ أَنْتُمْ مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ

ہم تھے تمہارے پیچھے (تابع)، پھر کچھ تم ہم پر سے اٹھا لو گے حصہ آگ کا؟

قَالَ اللَّذِينَ أُسْتَكْنُوا بَرْوَأً إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ

کہیں گے جو غرور کرتے تھے ہم سمجھی پڑے ہیں اس میں، اللہ فیصلہ کر چکا بندوں میں۔

وَقَالَ اللَّذِينَ فِي النَّارِ لَخَزَنَةٍ جَهَنَّمَ

اور کہیں گے جو لوگ پڑے ہیں آگ میں دوزخ کے داروں غوں کو،

أَذْغُو أَرَبَّكُمْ يُجَحَّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ

ماں گوا پنے رب سے کہ ہم پر ہلاکارے ایک دن تھوڑا عذاب۔

قَالُواٰ أَوْلَمْ تَكُنْ تَأْتِيْكُمْ رَسُولُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ

وہ بولے کیا نہ آتے تھے تم پاس تمہارے رسول کھلے نشان لے کر؟

قَالُواٰ بَلَىٰ

کہیں گے کیوں نہیں!

قَالُواٰ فَادْعُوْا

بولے! پھر (تم خود ہی) پکارو۔

وَمَا دُعَوْا إِلَّا كَفِرِيْنَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

اور کچھ نہیں پکارنا کافروں کا، مگر بہکنا۔

إِنَّ اللَّهَ نَصْرُ رَسُولَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ هُدُّ

ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کے جیتے، اور (اس دن بھی)

جب (گواہی کے لئے) کھڑے ہوں گے گواہ۔

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِيْنَ مَعْذِلَتُهُمْ وَلَهُمْ الْغَنَّةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

جس دن کام نہ آئیں منکروں کو ان کے بہانے، اور ان کو پھٹکا رہے اور ان کو برآ گھر۔

وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأُوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ

اور ہم نے دی موسیٰ کو راہ کی سوجھ، اور وارث کیا بنی اسرائیل کو کتاب کا۔

هُدًى وَذِكْرٍ لِلّٰوٰلِ الْأَلَبِ

سوجھاتی اور سمجھاتی عقائد و کو۔

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ

سو تو ٹھہرا رہ (صبر کر)، پیشک وعدہ اللہ کا ٹھیک (حق) ہے،

وَأَسْتَغْفِرُ لِذَنِبِكَ وَسَيْحِ بَحْمَدِ رَبِّكَ بِالْعَشِّ وَالْإِبْكَارِ

اور بخشواد اپنا گناہ، اور پاکی بول اپنے رب کی خوبیاں شام کو اور صبح کو۔

إِنَّ الَّذِينَ يُجَدِّلُونَ فِي إِيمَانِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِلَغِيهِ

اور جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں، بغیر کچھ سند کے جو پہنچی ہوان کو،
کچھ نہیں ان کے جی میں، غرور ہے، کہ کبھی نہ پہنچیں گے اس تک۔

فَأَسْتَعِذُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

سو تو پناہ مانگ اللہ کی، پیشک وہ ہے سنتادیکھتا۔

خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

البتہ پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا، بڑا ہے لوگوں کے بنانے سے،

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

لیکن بہت لوگ نہیں سمجھتے۔

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ وَلَا أَمْسِيَءُ

اور برابر نہیں اندھا اور دیکھتا اور نہ ایماندار جو بھلے کام کرتے ہیں، اور نہ بدکار۔

قَلِيلًا مَا تَنَزَّلَ كَرْوَونَ

تم تھوڑا سوچ (غورو فکر) کرتے ہو۔

إِنَّ الْسَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبٌ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ

تحقیق (بلاشبہ) وہ (قیامت کی) گھٹری آئی ہے، اس میں دھوکا نہیں، لیکن بہت لوگ نہیں مانتے۔

وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لِكُمْ

اور کہتا ہے تمہارا رب مجھ کو پکارو، کہ پہنچوں تمہاری پکار کو۔

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيُدْخَلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

پیش کجو لوگ بڑائی کرتے (منه موڑتے) ہیں میری بندگی سے،

اب پیٹھیں (داخل ہوں) گے دوزخ میں ذلیل ہو کر۔

اللَّهُ أَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَا رَمْبَصِرًا

اللہ ہے جس نے بنادی تم کورات کہ اس میں چین پکڑو، اور دن دیا دکھاتا (روشن)۔

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

اللہ تو فضل رکھتا ہے لوگوں پر، لیکن بہت لوگ حق نہیں مانتے (شکرا دا نہیں کرتے)۔

.62

ذَلِكُمْ أَنَّهُ رَبُّكُمْ خَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ^ص

وَاللَّهُ هُوَ رَبُّ تَمَهَارَا، هُرْجِيزِ بَنَانِهِ وَالَا، كَسِيَّ كِيَ بَندَگِي نَهِيَّ اسِ سَوَا،

فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ

پھر کہاں سے پھرے (بہکائے) جاتے ہو؟

.63

كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا أُبَيَا يَتَمَّ اللَّهُ يَعْلَمُ حَدُودَنَ

اسی طرح پھیرے (بہکائے) جاتے ہیں، جو لوگ رہتے ہیں اللہ کی باتوں سے منکر ہوتے۔

.64

اللَّهُ أَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَاءَةً وَالسَّمَاءَ بَنَاءً

اللہ ہے! جس نے بنادی تم کو زمین ٹھہراو (جائے قرار)، اور آسمان عمارت (چھت)،

وَصَوَرَ كُمْ فَأَحْسَنَ صُورَ كُمْ وَرَزَقَ كُمْ مِنَ الظِّيَابَتِ^ج

اور تم کو صورت بنائی، پھر اچھی بنائیں صورتیں تمہاری، اور روزی دی تم کو ستری چیزوں سے۔

ذَلِكُمْ أَنَّهُ رَبُّكُمْ^ص

وَاللَّهُ هُوَ رَبُّ تَمَهَارَا۔

فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

سو بڑی برکت ہے اللہ کی، جو رب ہے سارے جہان کا۔

هُوَ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَّا هُوَ فَأَدْعُوهُ لِخَلِصِينَ لَهُ الْمُّلِّينَ^ق

.65

وہ ہے زندہ رہنے والا، کسی کی بندگی نہیں اسکے سوا، سواس کو پکارو نزی کر کر اُس کی بندگی۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سب خوبی اللہ کو جو رب ہے سارے جہان کا۔

قُلْ إِنِّيٌّ هُنْيٌ أَنْ أَعْبُدُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي أُلْبِيَتُ مِنْ شَرِّيٍّ

.66 تو کہہ، مجھ کو منع ہوا کہ پوجوں جنکو تم پکارتے ہو سوا اللہ کے، جب پہنچ چکیں مجھ کو کھلی نشانیاں میرے رب سے،

وَأَمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

اور حکم ہوا کہ تابع رہوں جہان کے صاحب کا۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ

.67 وہی ہے جس نے بنایا تم کو خاک سے،

ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طَفْلًاً

پھر پانی کی بوند سے، پھر لہو کی پھٹکی سے، پھر تم کو نکالتا ہے لڑکے (پچے)،

ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشْدَادَكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا أُشْيُوخًا

پھر جب تک پہنچو اپنے زور (جو انی) کو، پھر جب تک ہو جاؤ بوڑھے۔

وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلٍ

اور کوئی ہے تم میں کہ بھر لیا (واپس بلا لیا) پہلے اس سے،

وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

اور جب تک پہنچو لکھے وعدے کو، اور شاید تم بو جھو۔

.68

صَلَّى
هُوَ اللَّذِي يُحْيِي وَيُمْبِي

وہ ہے جو جلاتا (زندہ کرتا) ہے اور مارتا ہے،

فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

پھر جب حکم کرے کسی کام کو، تو یہی کہے اسکو کہ 'ہو'، وہ ہو جاتا ہے۔

.69

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَدِّلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ

ٹونے نہ دیکھے جو بھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں،

أَنِّي أَعْصَرُ فُونَ

کہاں سے پھرے جاتے ہیں؟

صَلَّى
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَهُمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِم مِّنْنَا

جنہوں نے جھلائی یہ کتاب، اور جو بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ،

فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

سو آخر جان لیں گے۔

.70

إِذَا أَلَّا غَلَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلِيلُ يُسْخَبُونَ

جب طوق پڑے ہیں ان کی گردنوں میں اور زنجیریں، گھسیٹے جاتے ہیں۔

.71

فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي الْنَّارِ يُسْجَرُونَ

جلتے پانی میں، پھر آگ میں ان کو جھوکتے ہیں۔

.72

.73

ۗ قَيْلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ

پھران کو کہا ہے کہ کہاں گئے جن کو شریک بتاتے تھے؟

صَلَّى
مِنْ دُونِ اللَّهِ

اللہ کے سوا۔

قَالُوا خَلُوٰ اعْنَابَلَ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوْ اِمْنَ قَبْلُ شَيْئًا

bole ہم سے چوک (گم ہو) گئے، کوئی نہیں! ہم تو پکارتے نہ تھے پہلے کسی چیز کو۔

كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَفِرِينَ

اسی طرح بچلاتا (بدھواس کرتا) ہے اللہ منکروں کو۔

ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ

یہ بدله اس کا جو تم ریجھتے پھرتے تھے زمین میں ناحق، اور اس کا جو تم اتراتے تھے۔

صَلَّى
أَذْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا

پیٹھو (داخل ہو) دروازوں میں دوزخ کے، سدار ہنے کو اس میں۔

فِيْنَسْ مَثُوَى الْمُتَكَبِّرِينَ

سوکیا بدھ کانا ہے غرور والوں کا۔

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

سو تو ٹھہراہ (صبر کر)، پیشک وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے۔

.74

.75

.76

.77

فَإِمَّا نُرِيْنَكُ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيْنَكُ

پھر کبھی ہم دکھائیں تجھ کو کوئی وعدہ جوان کو دیتے ہیں، یا بھولیں تجھ کو،

فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ

پھر ہماری طرف پھرے (لوٹے) آئیں گے۔

وَلَقَدْ أَرَسْلَنَا مُسْلَمٌ مِّنْ قَبْلِكُ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكُ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْنَا عَلَيْكُ

.78

اور ہم نے بھیجے ہیں بہت رسول تجھ سے پہلے، کوئی ان میں ہیں کہ سنایا تجھ کو انکا احوال، کوئی ہیں کہ نہیں سنایا۔

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِجَآءِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

کسی رسول کا مقدور نہ تھا، کہ لے آتا کوئی نشانی، مگر اللہ کے حکم سے۔

فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطَلُونَ

پھر جب آیا حکم اللہ کا، فیصلہ ہو گیا انصاف سے اور ٹوٹے (خسارے) میں آئے اس جگہ جھوٹے۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَمَ لِتَرْكُوبُ أَمْنَهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

.79

اللہ ہے جس نے بنا دیئے تم کو چوپائے تاکہ سواری کرو کتنوں (بعضوں) پر اور کتنوں کو کھاتے ہو۔

وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفَعٌ وَلِتَبْلُغُوا أَعْلَيَهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ

.80

ان میں تم کو بہت فائدے ہیں، اور تا (کہ) پہنچو ان پر چڑھ کر کسی کام تک جو تمہارے جی میں ہو،

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ

اور ان پر، اور کشتی پر لدے پھرتے ہو۔

.81

وَيُرِيكُمْ إِيمَانَهُ فَأَمَّا مَا آتَيْتِ اللَّهُ تُنَكِّرُونَ

اور دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں، پھر کون کون نشانیاں اپنے رب کی نہ مانو گے؟

.82

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

کیا پھرے نہیں ملک میں کہ دیکھتے، آخر کیسا ہوا ان سے پہلوں کا؟

كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَإِثْمًا فِي الْأَرْضِ

وہ تھے ان سے زیادہ اور زور میں سخت، اور نشانیوں میں جو چھوڑ گئے ہیں زمین پر،

فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا أَيْكُسِبُونَ

پھر کام نہ آیا ان کو جو کماتے تھے۔

.83

فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبُيْنَتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

پھر جب پنجے ان پاس رسول ان کے کھلی نشانیاں لے کر، ریجھنے لگے اس پر جوان کے پاس تھی خبر،

وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهِزُونَ

اور اُٹ پڑی ان پر جس چیز پر ٹھٹھا (ہنسا کرتے) کرتے تھے۔

.84

فَلَمَّا رَأَوْا أَبَاءَنَا قَالُوا إِنَّا مَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ

پھر جب دیکھی انہوں نے ہماری آفت، بولے یقین لائے اللہ اکیلے پر، اور چھوڑیں جو چیزیں شریک بتاتے تھے۔

.85

فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا أَبَاءَنَا

پھرنہ ہوا کہ کام آئے، ان کو یقین لانا ان کا، جس وقت دیکھ پکے ہمارا عذاب۔

سُنَّتُ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَقَ فِي عِبَادِهِ

رسم (سنّت) پڑی ہوئی اللہ کی، جو چلی آئی ہے اس کے بندوں میں۔

وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَفِرُونَ

اور خراب ہوئے اس جگہ منکر۔

© Copy Rights:

Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana

Lahore, Pakistan

www.quran4u.com

Email:

quran4u_com@yahoo.com